



سوال

(43) قربانی سے متعلق سوالات

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قربانی کا جانور بیمار ہونے کی وجہ سے فروخت کر دیا اب کیا حکم ہے۔؟

قربانی کے گوشت اور ہڈیوں کا حکم؟

کیا قربانی کی کھالیں امام مسجد کو جائز ہیں۔؟

حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی۔۔۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

حسب ذیل مسائل کا فوری جواب عنایت فرمائیں۔

سوال- 1 زید نے عید الاضحیٰ سے قریباً چھ ماہ پیشتر قربانی کیلئے 29 روپے میں دنبہ خریدا دو ماہ بعد بیمار ہو گیا جس کو سترہ روپے میں فروخت کر دیا۔ کیا زید کو اب دنبہ ہی خریدنا چاہیے۔ یا گائے میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔؟

سوال- 2 قربانی کے گوشت اور ہڈیوں کا کیا حکم ہے۔؟

سوال- 3 کیا قربانی کی کھالیں امام مسجد کو دینی جائز ہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جتنے روپے میں جانور فروخت کیا گیا۔ وہ قربانی کے علاوہ دوسری جگہ صرف نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر زید کو اتنی رقم میں دنبہ وغیرہ نہ مل سکے تو گائے میں شریک ہو سکتا ہے۔ آجکل گرانی ہے اگر اتنے میں حصہ نہ مل سکے تو مزید روپے ان میں شامل کرے۔ بہر صورت قربانی کے روپے ہی میں صرف ہوں گے۔

2- قربانی کا گوشت نہیں فروخت کرنا چاہیے۔ خود کھانے کچھ راہ اللہ تقسیم کرے۔ عزیز رشتہ داروں کو دینا بھی جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کو خشک کر کے ذخیرہ بھی کر سکتے



ہیں۔ قصاب کو گوشت اجرت میں دینا منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔

3۔ زکوٰۃ۔ فطرانہ۔ قربانی کی کھالیں۔ یہ کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ صدقات۔ خیرات کی قسم سے ہیں۔ یہ مسکینوں وغیرہ کا حق ہے۔ ان کی تنخواہ کے قائم مقام قرار دینا۔ اس سے صدقہ خیرات باطل ہو جاتا ہے۔ نہ زکوٰۃ۔ نہ قربانی۔ نہ فطرانہ ادا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مساکین کو مفت دینی چاہئیں۔ اگر امام مسکین ہے اور امام نہ ہونے کی حالت میں بھی یہ چیزیں امام کو دی جاتی تھیں۔ تو پھر امامت کے وقت بھی جائز ہو سکتی ہیں۔ لیکن دیہات وغیرہ کا سلسلہ اس قسم کا نہیں وہ امام نہ ہونے کی حالت میں بچوں کو تعلیم نہ دینے کی حالت میں۔ امام کو نہیں دیتے۔ اور امام ہونے کی حالت میں دیتے ہیں۔ اس بناء پر ان لوگوں کے یہ صدقات۔ خیرات ضائع ہیں۔

(تنظیم اہل حدیث جلد 17 ش 38/39)

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 13 ص 108

محدث فتویٰ